

16 مارچ 2018

## برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو حتمی شکل دینے میں مدد کریں

برامپٹن، آن – ستمبر میں سروس میں بہتریوں کے منصوبے کے آغاز سے پہلے، برامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرنے والے لوگوں اور رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع میں بہتری لانے کے حوالے سے اپنی فیڈبیک اور مدد فراہم کریں۔

برامپٹن ٹرانزٹ کا عملہ پورے شہر میں مختلف جگہوں پر موجود ہو گا اور مجوزہ راستوں اور شیڈول میں تبدیلیوں سے آگاہ کرے گا اور منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوامی رائے جمع کرے گا۔

**منگل، 20 مارچ**  
دن 3 - شام 6  
برامیلا ٹرمینل  
160 سینٹرل پارک ڈرائیو

**پیر، 26 مارچ**  
دن 3 - شام 6  
ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل  
8 نیلسن اسٹریٹ

**بدھ، 21 مارچ**  
دن 4 - شام 7  
کرس گبسن ریکرینیشن سنٹر  
125 مک لافلن روڈ

**منگل، 27 مارچ**  
دن 4 - شام 7  
گور میڈوز کمیونٹی سنٹر  
10150 دی گور روڈ

**جمعرات، 22 مارچ**  
دن 4 - شام 7  
کیسی کیمپیل کمیونٹی سنٹر  
1050 سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ

**بدھ، 28 مارچ**  
دن 11 - دن 2، دن 3 - شام 6  
برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل  
501 مین اسٹریٹ ساؤتھ

سروس میں مجوزہ بہتریاں بروز پیر مورخہ 19 مارچ سے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر دیکھی جا سکیں گی، جن کے ساتھ تبصروں کا ایک آن لائن فارم بھی موجود ہو گا۔

2017 میں، برامپٹن ٹرانزٹ کو سواری کی 18 فیصد کی بے مثال بڑھوتری کے ساتھ کینیڈا کے تیز ترین بڑھنے والے نقل و حمل کی خدمات کے فراہم کنندگان میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ صارفین اور عملے کی فیڈبیک کے ذریعے برامپٹن ٹرانزٹ، اپنی تیز بڑھوتری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ  
نتالی سٹوگڈیل  
میڈیا کوارٹینیر  
سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654